

Key Fact Statement for Deposit Accounts فہرٹ اکاؤنٹس کے متعلق اہم معلومات		
MCB Islamic Bank Limited, ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ Branch, برانچ City. شہر	Date تاریخ	DD-MM-YYYY
	IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. It is available in English and Urdu. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison. ضروری ہدایت: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں تو اس دستاویز کو بخوبی پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کی طرف سے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لیے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔	

Account Types & Salient Features: اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات

This information is accurate as of the date above. Services and fees may change on six-monthly basis, whereas Profit rates may change on monthly basis. These accounts are based on the Shari’ah principle of “Unrestricted Mudarabah” as explained in the Account Opening Form. For Updated fees/charges, you may visit our website or visit our branches.

یہ معلومات اوپر دی گئی تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات اور فیس ششماہی بنیادوں پر تبدیل ہو سکتی ہیں، جبکہ منافع کی شرحیں ماہانہ بنیادوں پر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ اکاؤنٹس، ”مطلق مضاربہ“ کے شرعی اصول پر مبنی ہیں جیسا کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں بیان کیا گیا ہے۔ اپڈیٹڈ فیس/چارجز کی معلومات کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا ہماری برانچ جاسکتے ہیں۔

Particulars تفصیلات		MCB Islamic Imaan Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Plus Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پلس اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Premium Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پرمیم اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Super Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سوپر سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Imaan Foreign Currency Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان فارن کرنسی سیونگ اکاؤنٹ
Currency کرنسی		پاکستانی روپیہ PKR	پاکستانی روپیہ PKR	پاکستانی روپیہ PKR	پاکستانی روپیہ PKR	پاکستانی روپیہ PKR	US\$, GBP, EUR and JPY یو ایس ڈالر، برٹش پونڈ، یورو اور جاپانی ین
For Individuals, Other-Than-Individuals, or Both عام افراد، عام افراد کے علاوہ یا دونوں		Both دونوں	Both دونوں	Both دونوں	Both دونوں	Both دونوں	Both دونوں
Minimum Balance for Account اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم رقم	To open کھولنے کے لیے	Rs. 100/- سو روپیہ	Rs. 100/- سو روپیہ	Rs. 100,000/- ایک لاکھ روپیہ	Rs. 1,000,000/- دس لاکھ روپیہ	Rs. 10,000,000/- ایک کروڑ روپیہ	US\$ 500 or equivalent in GBP, EUR & JPY یو ایس \$500 یا اس کے مساوی برٹش پونڈ، یورو اور جاپانی ین
	To Keep رکھنے کے لیے	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں
Account Maintenance Fee اکاؤنٹ پر قرار رکھنے کی فیس		Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں	Nil کوئی نہیں
Is Profit Paid on Account? کیا اس اکاؤنٹ پر ہرافٹ ملے گا؟ <i>Subject to the applicable tax rate</i> (قابل اطلاق ٹیکس کے ساتھ مشروط)		Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں
Profit Calculation Basis منافع کے حساب کتاب کا طریقہ کار		ماہانہ اوسط بیلنس Monthly Average Balance					
Profit Tiers / Slabs منافع کے درجات		Single ایک درجہ	Multiple مختلف درجات	Multiple مختلف درجات	Multiple مختلف درجات	Multiple مختلف درجات	Single ایک درجہ
Indicative Profit Rate (%) متوقع منافع کی شرح		_____	Min. _____ Max. _____	Min. _____ Max. _____	Min. _____ Max. _____	Min. _____ Max. _____	US\$ _____ GBP _____ EUR _____ JPY _____
Profit Payment Frequency منافع کی ادائیگی کا دورانیہ		Six-Monthly ششماہی	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Six-Monthly ششماہی
Provide example: (On each 1000/-, you can expect to earn ____/- on given periodicity) مثال فراہم کریں: (ہر ہزار پر آپ دیئے گئے دورانیہ کے مطابق متوقع ____/- کمائیں گے۔) (ہیں۔)		Rs. ____/-	Min. Rs. ____/- Max. Rs. ____/-	Min. Rs. ____/- Max. Rs. ____/-	Min. Rs. ____/- Max. Rs. ____/-	Min. Rs. ____/- Max. Rs. ____/-	US\$ ____/- GBP ____/- EUR ____/- JPY ____/-
Premature / Early Encashment / Withdrawal Fee قبل از وقت / جلد نقد رقم نکالنے / واپسی کی فیس		Not Applicable لاگو نہیں ہے۔	Not Applicable لاگو نہیں ہے۔	Not Applicable لاگو نہیں ہے۔	Not Applicable لاگو نہیں ہے۔	Not Applicable لاگو نہیں ہے۔	Not Applicable لاگو نہیں ہے۔

Service Charges سروس چارجز

IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list at MCB Islamic Bank branches, on our website at <https://www.mcbislamicbank.com>. Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes (unless otherwise stated below).

ضروری ہدایت: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ کو ایک مکمل فہرست ایم سی بی اسلامک بینک کی براؤنچز یا ویب سائٹ <https://www.mcbislamicbank.com> وزٹ کرنے پر مل سکتی ہے۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکس کے علاوہ ہیں (جب تک کہ ذیل میں بیان نہ ہوں)۔

Services سروسز	Modes ذرائع	MCB Islamic Imaan Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Plus Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پلس اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Premium Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پرمیم اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Super Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سوپر سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Imaan Foreign Currency Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان فارن اکاؤنٹ کرنسی سیونگ
Cash Transaction کیش ٹرانزیکشن	Intercity شہروں کے مابین	Zero (MCB Islamic Bank offers free Online Banking Service) صفر (ایم سی بی اسلامک بینک آن لائن بینکنگ سروس مفت فراہم کرتا ہے۔)					
	Intra-city شہر کے اندر	Zero (MCB Islamic Bank offers free Online Banking Service) صفر (ایم سی بی اسلامک بینک آن لائن بینکنگ سروس مفت فراہم کرتا ہے۔)					

Services سروسز	Modes ذرائع	MCB Islamic Imaan Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Plus Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پلس اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Premium Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پرمیم اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Super Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سوپر سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Imaan Foreign Currency Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان فارن اکاؤنٹ کرنسی سیونگ
	Own ATM withdrawal اپنے بینک کے اے ٹی ایم پر	Zero صفر					Not Applicable لاگو نہیں ہے
	Other Bank ATM دیگر بینک کے اے ٹی ایم پر	Rs. 35/- per transaction inclusive of applicable tax 35/- روپے فی ٹرانزیکشن بشمول ٹیکس					Not Applicable لاگو نہیں ہے
	Receipt on MCB Islamic ATM for Cash Withdrawal / Balance Enquiry ایم سی بی اسلامک کی اے ٹی ایم سے کیش نکالنے / بیلنس کی انکوائری پر رسید	Rs.5 /- flat (inclusive of applicable tax/FED) پانچ روپے فلیٹ (بشمول لاگو ٹیکس / ایف ای ڈی)					Not Applicable لاگو نہیں ہے
SMS Alerts ایس ایم ایس الارٹس	ADC / Digital اے ڈی سی / ڈیجیٹل	Zero صفر					Not Applicable لاگو نہیں ہے
	Clearing کلیرنگ	Please refer to “For other transactions” row below براہ کرم نیچے "دیگر معاملات" کے خانے میں دیکھیں۔					Equivalent Foreign Currency of Specified Amount مخصوص رقم کے مساوی غیر ملکی کرنسی
	For other transactions دیگر معاملات کے لیے	Annual Fee Rs.2,700/- -plus FED including clearing سالانہ فیس ستائیس سو روپے بمع ایف ای ڈی بشمول کلیرنگ Monthly Fee Rs. 225/- plus FED including clearing دو سو بیچیس روپے ماہانہ فیس بمع ایف ای ڈی بشمول کلیرنگ					
Debit Cards ڈیبٹ کارڈز	Classic کلاسیک	UPI Rs. 2,600/- -plus FED دو ہزار نو سو پچاس روپے بمع ایف ای ڈی Visa Classic 2,950/- plus FED					FCY Gold (Individual) USD 12 ایف سی وائی (افراد کے لیے) گولڈ 12 امریکی ڈالر
	Gold گولڈ	UPI Rs. 3,200/- -plus FED تیس سو روپے بمع ایف ای ڈی Visa Gold 3,950/- plus FED تین ہزار نو سو پچاس روپے بمع ایف ای ڈی					
	PayPak Classic پے پاک کلاسیک	Rs. 2,200/- -plus FED بائیس سو روپے بمع ایف ای ڈی					
	Platinum پلاٹینم	UPI-Not offered یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ Visa Platinum 3,500/- plus FED (90 Days) تین ہزار پانچ سو روپے بمع ایف ای ڈی (90 دن کے لیے) Quarterly Renewal Fee (90 days): Free On maintaining the Avg. deposit of Rs.3M in Preceding 90 days otherwise charges apply تین ماہ کی تجدیدی فیس (90 دن): مفت اگر پچھلے 90 دنوں میں اوسطاً 30 لاکھ روپے جمع رہے ہوں، بصورت دیگر فیس لاگو ہوگی					FCY Platinum Business (Corporate) USD 40 ایف سی وائی پلاٹینم بزنس (کارپوریٹ) 40 امریکی ڈالر
	Others دیگر	Not offered یہ سہولت میسر نہیں ہے۔					
Cheque Book چیک بک	Issuance اجراء	Rs. 10 /- per leaf دس روپے فی ورقہ					Equivalent Foreign Currency of Specified Amount مخصوص رقم کے مساوی غیر ملکی کرنسی۔
	Stop Payment ادائیگی روکنا	Rs. 500/- per cheque. Maximum Rs. 1,500/- (for Cheque book / multiple cheques) پانچ سو روپے فی چیک۔ زیادہ سے زیادہ پندرہ سو روپے (چیک بک / ایک سے زیادہ چیکوں کیلئے)					
	Loose Cheque چیک گمشدگی	Rs. 250/- plus Cheque book charges inclusive of stop payment charges. ڈھائی سو روپے بمع چیک بک چارجز بشمول ادائیگی روکنے کے چارجز					
Remittance (Local) ریمٹیننس (لوکل)	Banker Cheque / Pay Order بینکر چیک / پے آرڈر	Rs. 200/- per Instrument for Account Holder اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے دو سو روپے فی دستاویز					Not Applicable لاگو نہیں ہے
Remittance Foreign (بین الاقوامی) ریمٹیننس	Foreign Demand Draft بین الاقوامی ڈیمانڈ ڈرافٹ	Not offered یہ سہولت میسر نہیں ہے۔					
	Wire Transfer وائر کے ذریعے منتقلی	بیرونی ترسیلات زر (i) Minimum US\$ 15/- per item upto value of US\$ 10k or its equivalent. 10 ہزار امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ کی رقم تک کم از کم 15 امریکی ڈالر فی کس (ii) Minimum US\$ 30/- per item upto value of above US\$ 10K upto US\$ 40K or its equivalent. 10 ہزار امریکی ڈالر سے زائد 40 ہزار امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم تک کم از کم 30 امریکی ڈالر (iii) Minimum 0.1% per item above US\$ 40k or US\$ 70 whichever is higher. 40 ہزار امریکی ڈالر سے زائد رقم پر کم از کم 0.1% یا 70 امریکی ڈالر فی کس جو بھی زائد ہو۔ اندرونی ترسیلات زر Zero صفر					
Statement of Account اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	Annual سالانہ	Zero صفر					بیئیتیس روپے فی اسٹیٹمنٹ بشمول ٹیکسز تاہم کسی بھی دورانیہ کے لیے ای۔ اسٹیٹمنٹ مفت ہے
	Half Yearly ششماہی	Zero صفر					
	Duplicate نقل	Rs. 35/- per statement including taxes However, E-Statement is free irrespective of the frequency					
Fund Transfer فنڈ ٹرانسفر	ADC / Digital Channels اے ڈی سی / ڈیجیٹل ذریعے	Zero if transaction is done within MCB Islamic Bank Ltd Inter Bank Funds Transfer Transaction up to Rs 25,000/- NIL. Transaction Above PKR 25,000/- 0.1% or Rs 200 whichever is lower					Not Applicable لاگو نہیں ہے

Services سروسز	Modes ذرائع	MCB Islamic Imaan Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Plus Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پلس اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Saving Premium Account ایم سی بی اسلامک برکت سیونگ پرییم اکاؤنٹ	MCB Islamic Barkat Super Saving Account ایم سی بی اسلامک برکت سوپر سیونگ اکاؤنٹ	MCB Islamic Imaan Foreign Currency Saving Account ایم سی بی اسلامک ایمان فارن اکاؤنٹ کرنسی سیونگ	
		صفر اگر ٹرانزیکشن ایم سی بی اسلامک بینک کے اندر ہو انٹرنیٹ فڈ ٹرانسفر -/25,000 تک کے لین دین پر نہیں ہے -/25,000 سے زیادہ لین دین پر 0.1% یا 200 روپے میں سے جو کم ہو لاگو ہوگا۔						
	Others دیگر	ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ چارجز (RTGS) Real Time Gross Settlement Charges (Tax is applicable on Bank’s income as per rules) (ٹیکس قواعد کے مطابق بینک کی آمدنی پر لاگو ہوتا ہے)					Not Applicable لاگو نہیں ہے	
		Days دن	Transaction Time ٹرانزیکشن کا وقت		SBP	Bank Charges بینک چارجز		Total ٹوٹل
		MT 103						
		Monday to Friday پیر تا جمعہ	9:00 Am to 2:00 PM After 2:00 PM to 3:30 PM After 3:30 PM to 4:00 PM		Waived as per SBP Instructions ایس بی پی کی ہدایت کے مطابق معاف کر دیے گئے ہیں۔			
		MT 102						
		Monday to Friday پیر تا جمعہ	9:00 AM to 4:00 PM		Waived as per SBP Instructions ایس بی پی کی ہدایت کے مطابق معاف کر دیے گئے ہیں۔			
		MT 202						
		Monday to Friday پیر تا جمعہ	9:00 AM to 4:00 PM	Rs. 200/-	Rs. 20/-	Rs. 220/-		
	During Ramadan RTGS timings and charges will be observed as per SBP instructions. رمضان المبارک کے دوران آر ٹی جی ایس کے اوقات اور معاوضے ایس بی پی کی ہدایت کے مطابق لیے جائیں گے۔							
Digital Banking ڈیجیٹل بینکنگ	Internet Banking Subscription (one-time & annual) انٹرنیٹ بینکنگ کی رکنیت (ایک بار اور سالانہ)	Zero صفر					Zero View Services Only صرف دیکھنے کی سہولت ہے	
	Corporate Internet Banking Subscription کارپوریٹ انٹرنیٹ بینکنگ کی رکنیت	As per agreed terms اتفاق شدہ شرائط کے مطابق					As per agreed terms اتفاق شدہ شرائط کے مطابق View Services Only صرف دیکھنے کی سہولت ہے	
	Mobile Banking subscription (one-time & annual) موبائل بینکنگ کی رکنیت (ایک بار اور سالانہ)	Zero صفر					Zero View Services Only صرف دیکھنے کی سہولت ہے	
Clearing کلیرنگ	Normal عام	Zero صفر					اصل پر At Actual	
	Intercity انٹرنسٹی	تین سو روپے فی دستاویز Rs. 300/- per instrument						
		Same Day اسی دن	اصل پر At Actual					
Closure of Account اکاؤنٹ کی بندش	Customer request کسٹمر کی درخواست	Zero صفر						

آپ کو معلوم ہونا چاہیے You Must Know	
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and banks’ internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details. اکاؤنٹ کھولانے کے لیے مطلوبہ چیزیں: اکاؤنٹ کھولانے کے لیے آپ کو قانونی ہدایات اور بینکوں کی داخلی پالیسیوں کے مطابق شناخت کے لیے کچھ ضروری باتوں کو پورا کرنا ہوگا۔ جن میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا شامل ہو سکتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ Cheque Bounce: Dishonoring of cheques is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. Pakistan Penal Court clause 489-F# “Whoever dishonestly issues a cheque towards re-payment of a loan or fulfilment of an obligation which is dishonoured on presentation, shall be punishable with imprisonment which may extend to three years and with fine, unless he can establish, for which the burden of proof shall rest on him, that he had made arrangements with his bank to ensure that the cheque would be honoured and that the bank was at fault in not honouring the cheque.” چیک باؤنس: (ڈس آئزنگ آف چیکس) چیک مسترد ہونا پاکستان میں فوجداری مقدمے سے مشروط ہے۔ اسی مناسبت سے، آپ کو انتہائی سمجھداری سے چیک لکھنا چاہئے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 489 ایف- "جو شخص کسی قرض کی ادائیگی یا اپنی کسی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے بے ایمانی سے ایسا چیک پیش	Unclaimed Deposits: In terms of section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact Branch Manager of the concerned MCB Islamic Bank branch. غیر وعودیدار ڈپازٹس: بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31 کے تحت، وہ تمام ڈپازٹس جو گزشتہ دس سال کے عرصے میں استعمال نہ کیے گئے ہوں (سوائے ان ڈپازٹس کے جو کسی نابالغ یا حکومت یا کسی عدالت کے نام پر ہوں) قانونی دفعات کے مطابق شرائط کو پورا کرنے کے بعد متعلقہ بینکوں کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیے گئے ڈپازٹس کی واپسی کا مطالبہ متعلقہ بینکوں کے ذریعے کیا جاسکتا ہے مزید معلومات کے لئے، براہ کرم متعلقہ ایم سی بی اسلامک بینک برانچ کے برانچ مینجر سے رابطہ کریں۔ Closing this account: In order to close your account, please follow below mentioned process. If you request account closure in person in branch then you have to submit duly filled and signed bank provided account closure form (closure request) and provide all required details / information as requested by bank.

You Must Know آپ کو معلوم ہونا چاہیے	
کرتاہے جو پیشی پر مسز دہو جاتا ہے، ایسے شخص کو تین سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، جب تک وہ اس بات کو ثابت نہ کر سکے جس کا بار ثبوت اس شخص پر ہوگا کہ اس نے اپنے بینک کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ چیک مسز دہو گا اور یہ کہ چیک بینک کی غلطی سے مسز دہو ا۔" Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, cheques, e-banking usernames, passwords, other personal information, etc. is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of security lapse at the customer’s end. Please note that MCB Islamic Bank Ltd. or any of its staff do not initiate any calls to acquire any such confidential information. حفاظت کی ذمہ داری: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی والے آلات کی حفاظت، جیسے اسے ٹی ایم کارڈز، پین، چیک، ای بیٹنگ صارف نام، پاس ورڈ۔ دیگر ذاتی معلومات وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی طرف سے غیر ذمہ داری کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ پاس کا کوئی عملہ اس طرح کی خفیہ معلومات کے حصول کے لئے کوئی کال نہیں کرتا ہے۔ Record updation: Always keep profiles/records updated with the bank to avoid missing any significant communications. You can contact your respective / parent MCB Islamic Bank Branch in person to update your information. ریکارڈ کی تجدید: کسی بھی اہم اطلاعات سے باخبر رہنے کے لئے ہمیشہ بینک کے ساتھ پروفائلز / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ بذات خود ایم سی بی اسلامک بینک کی متعلقہ برانچ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔۔ What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as dormant. If your account becomes dormant, debit transaction / withdrawals shall not be allowed until the account is reactivated on the request of the account holder. To reactivate your account, you must visit any MCB Islamic Bank branch or submit formal request through courier or email to your respective parent branch or call our phone banking through your registered mobile number or landline number. If you are an overseas customer, your parent branch shall require documents like CNIC, Passport, and Visa entry / exit, employment letter, medical certificate, Travel plan, etc. duly verified by competent authorities (Pakistan Embassy / Consulate / Notarized by Notary Public / Notary at Law) as applicable / relevant. -In case of Entities (i.e. other than individual(s) submit a written application prior to conducting any financial transaction. No account shall be activated without Bio-metric verification (where applicable). اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ 12 ماہ تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو، اس کو غیر فعال (dormant) سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے تو، جب تک اکاؤنٹ ہولڈر کی درخواست پر اکاؤنٹ دوبارہ فعال نہیں ہوتا تب تک ڈیبٹ ٹرانزیکشنز / رقم نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے آپ ایم سی بی اسلامک بینک کی کسی بھی برانچ میں تشریف لے جائیں یا ڈاک کے ذریعے باقاعدہ درخواست لکھیں یا اپنی متعلقہ برانچ کو ای میل کریں یا اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر یا لینڈ لائن نمبر کے ذریعے ہمارے فون بیٹنگ پر کال کریں۔ اگر آپ بیرون ملک مقیم کسٹمر ہیں تو، آپ کی متعلقہ برانچ کو کچھ کاغذات مطلوب ہوں گے جیسا کہ سی این آئی سی، پاسپورٹ، اور ویزا اندراج / اخراج، ملازمت کا لیٹر، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ٹریول پلان وغیرہ۔ جو کہ متعلقہ حکام (پاکستانی سفارت خانہ / قونصل خانہ / نوٹری پبلک / نوٹری ایٹ لاء) سے تصدیق شدہ ہوں۔ اداروں کی صورت میں (یعنی افراد کے علاوہ) کسی بھی مالی لین دین سے قبل تحریری درخواست جمع کروائیں۔ کوئی اکاؤنٹ بائیومیٹرک تصدیق (جہاں اطلاق ہوتا ہے) کے بغیر فعال نہیں ہوگا۔	2. If you request account closure via mail along with the unused leaves of cheque books / debit card(s) in case of a) Individual, sole proprietor and partnership accounts, the request should be signed by all authorized signatories, irrespective of the operating instructions. For example, in case of joint account with operating instruction of “either or survivor”, the account closing shall be made by all the accountholders. b) Company / Trust / NGO / NPO etc. accounts, ensure that account closure request has been signed in accordance with the mandate / instructions in the resolution of Board of directors / Trust / Governing body. اس اکاؤنٹ کو بند کرنا: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے، براہ کرم اس طریقہ پر عمل کریں۔ 1. اگر آپ برانچ میں ذاتی طور پر اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو آپ کو دستخط شدہ بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا فارم (بندش کی درخواست) جمع کروانا ہوگا اور بینک کی درخواست کے مطابق تمام مطلوبہ تفصیلات / معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ 2. اگر آپ چیک بک کے غیر استعمال شدہ صفحات / ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ ڈاک کے ذریعے اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو a. انفرادی، واحد مالک اور مشترکہ اکاؤنٹ، آپریٹنگ ہدایات سے قطع نظر درخواست پر تمام مجاز دستخط کنندگان کے دستخط ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں "کوئی ایک یا باقی ماندہ" کی آپریٹنگ ہدایت کے ساتھ، اکاؤنٹ کی بندش تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کریں گے۔ b. کمپنی / ٹرسٹ / این جی او / این بی او وغیرہ اکاؤنٹس، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست بورڈ آف ڈائریکٹرز / ٹرسٹ / گورننگ باڈی کی قرارداد میں مینڈیٹ / ہدایات کے مطابق دستخط کی گئی ہے۔ How can you get assistance or make a complaint? Contact information MCB Islamic Bank Limited Complaint Management Unit Service Quality Department 2nd Floor, Building Plot # LM -10 Block 10-A, Gulshan-e-Iqbal Main Rashid Minhas Road, Karachi City Tel: 042-111-222-642 Helpline: 042-111-222-642 Fax: 021-34972150 Email: Service.quality@mcbislamicbank.com Website: https://www.mcbislamicbank.com آپ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت درج کر سکتے ہیں؟ رابطہ کی معلومات ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ شکایت انتظامیہ یونٹ سروس کوالٹی ڈیپارٹمنٹ، سکینڈ فلور۔ پلاٹ # LM-10-10A بلاک 10-A، گلشن اقبال، مین راشد منہاس روڈ، کراچی۔ رابطہ نمبر: 042-111-222-642 ہیلپ لائن: 042-111-222-642 فیکس: 021-34972150 ای میل: Service.quality@mcbislamicbank.com ویب سائٹ: https://www.mcbislamicbank.com If you are not satisfied with our response, you may contact: Banking Mohtasib Pakistan Contact Details Email: info@bankingmohtasib.gov.pk Banking Mohtasib Pakistan, Shaheen Complex, 5th Floor, M. R. Kiyani Road, Karachi. Tel: (+92 21) 99217334-38 (5 lines) Fax: (+92 21) 99217375 For further details, please refer to: Website: www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں: بینکاری محتسب پاکستان—رابطہ کی تفصیلات بینکاری محتسب پاکستان، شاہین کمپلیکس، 5 منزل، ایم آر کیانی روڈ کراچی۔ ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk رابطہ نمبر: (+92 21) 99217334-38 (5 lines) فیکس: (+92 21) 99217375 ویب سائٹ: www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php
NOTE: The above are subject to change from time to time in accordance with State Bank of Pakistan’s regulations and MCB Islamic Bank Limited’s policies and procedures.	

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT میں ان اہم معلومات کو وصول کرنے اور نہیں سمجھنے کا اقرار کرتا ہوں					
Customer Name: کسٹمر کا نام			Date: تاریخ		
Product chosen: منتخب کی گئی پروڈکٹ					
Mandate of account اکاؤنٹ کا اختیار	Single / Joint / Either or Survivor کوئی ایک یا باقی ماندہ واحد / مشترک				
Address پتہ					
Contact No.: رابطہ نمبر		Mobile No. موبائل نمبر		Email Address ای میل ایڈرس	
Customer Signature کسٹمر کے دستخط				Signature Verified دستخط تصدیق کنندہ	